



## رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو لشکر کی ایک ٹکری کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور نماز میں (قراءت کا) اختتام **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** پر کرتا تھا۔

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو لشکر کی ایک ٹکری کا امیر بنا کر بھیجا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تھا اور نماز میں (قراءت کا) اختتام **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** پر کرتا تھا جب لوگ واپس آئے تو اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان سے پوچھو، وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟“ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ رحمن عزوجل کی صفت ہے، اس لیے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم لوگ اسے بتا دو کہ اللہ عزوجل بھی اسے پسند کرتا ہے۔“

[صحیح] [متفق علیہ]

آپ ﷺ نے کسی صحابی کو ایک سر پہ کا امیر بنایا، تاکہ وہ (سر پہ میں شامل) لوگوں کے انتظامی امور سنبھالیں، (اختلاف کی صورت میں) ان کے درمیان فیصلہ کریں اور کسی طرح کی کوئی بد نظمی نہ پیدا ہو۔ آپ ﷺ امیر اسی کو بناتے، جو لوگوں میں دین، علم اور کارکردگی کے اعتبار سے سب سے مناسب ہوتا، یہی وجہ ہے کہ جنگوں میں امیر ہی نماز کے امام ہوتے تھے اور اپنی علمی اور دینی برتری کی وجہ سے فتوے بھی دیتے۔ چنانچہ (مذکورہ) امیر اللہ تعالیٰ اور اس کے اسما و صفات سے محبت کی وجہ سے نماز کی دوسری رکعت میں **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** پڑھتا تھا، اس لیے کہ جو شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے، وہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ لوگ جب غزو سے واپس اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آئے، تو آپ ﷺ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ یہ محض اتفاق تھا یا اس کی کوئی وجہ تھی؟ امیر نے کہا کہ میں اس لیے ایسا کرتا تھا کہ یہ سورت رحمن کی صفت پر مشتمل ہے، اس لیے میں اسے بار بار پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے بتادو کہ جس طرح وہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے بار بار پڑھتا تھا، کیوں کہ یہ سورت اللہ کی عظیم صفت پر مشتمل ہے، جن پر اس میں مذکور اسما دلالت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/5213>